



برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 25 اپریل سے لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (14 اپریل 2022) – بروز پیر 25 اپریل 2022 سے، برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو مؤثر طریقے سے شہر میں ان کی منازل تک پہنچاتا رہے۔

درج ذیل روٹس پر سروس کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اور یہ سروس کی ترمیم شدہ سطحوں پر کام کر رہے ہیں:

- 12 گرینوبل
- 16 ساؤتھ گیٹ
- 17 بوڈین
- 19 فرن فارسٹ
- 36 گارڈن بروک

درج ذیل روٹس پر سروس کو مکمل طور پر بحال کیا جا رہا ہے:

- 6 جیمز پوٹر
- 10 ساؤتھ انڈسٹریل
- 20 ایسٹ انڈسٹریل
- 26 ماؤنٹ پلیزنٹ
- 27 ایلبرن مارکیل
- 23 سینڈل ووڈ
- 29/29A ولیمز
- 31 میک وین
- 32 فادر ٹوبن
- 35 کلارک وے
- 53 رے لاسن
- 57 شیرولیس
- 60 مسی ساگا روڈ

درج ذیل روٹس تاحکم ثانی منسوخ رہیں گے (بشمول دوران ہفتہ اور اختتام ہفتہ):

- 501A/501C زوم کوئین (501 اب بھی چلتا رہے گا)
- 561 زوم کوئین ویسٹ
- 18B ڈکسی (تاہم، 18 ڈکسی چلتا رہے گا)
- 21 برٹ لیک
- 58 فنانشل ٹرائیو
- 65 سینٹرز شاپر
- 92 برامیلا گو
- 104 چنگواکوسی ایکسپریس
- 185 ڈکسی ایکسپریس

نظام الاوقات کی مکمل تبدیلیوں اور روٹ کے بارے میں معلومات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔



اپنے اگلے سفر کا منصوبہ بنانے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ کانٹیکٹ سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں۔

وسائل کی دستیابی اور سواریوں کی تعداد پر نظر رکھی جا رہی ہے اور اس کے مطابق برامپٹن ٹرانزٹ جلد از جلد مزید خدمات کو بھی بحال کرے گا۔

مسافروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں اور ٹرانزٹ ٹرمینلز پر دوسروں کی حفاظت میں مدد کریں:

- ہر وقت ماسک کو موزوں طور پر پہنے رکھیں اور اپنے منہ، ٹھوڑی اور ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔
- اپنے پاس ہینڈ سینیٹائزر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
- جہاں تک ممکن ہو سکے جسمانی دوری کا خیال رکھیں۔

ہمارے مسافروں اور عملہ کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ، حکومت اونٹاریو اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ مطلع رہیں اور باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں یا ہمیں بذریعہ [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) ٹویٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کانٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca